

تین تین کا سنسنی خیز
حقوق کے لئے قلم اٹھائیں

17 دسمبر 2011

کسی کی رازگاری اور
تجربہ نامتو



فوری عمل کریں

نائیجیریا کے صدر کو لکھیں کہ:

■ پورٹ ہارکورٹ میں دو لاکھ آبادی
کی جبری بیدخلی کے خطرے پر آپ کو
تشویش ہے۔

■ صدر سے کہیں کہ وہ ہاوسنگ سے
متعلق قومی پالیسی اپنائیں جو نائیجیریا کے
باشندوں کو مناسب رہائش مہیا کرنے کو
یقینی بنائے اور اُس وقت تک نائیجیریا میں
برادریوں کی بے دخلیوں پر پابندی عائد
کر دیں۔

اپیل ارسال کریں:

His Excellency Goodluck Jonathan
President of the Republic of Nigeria
Office of the President
Nigerian Presidential Complex
Aso Rock Presidential Villa
Abuja
Federal Capital Territory
Nigeria

آداب: اعلیٰ حضرت / Your Excellency

پیغام یکجہتی بھیجیں:

پورٹ ہارکورٹ کے رہائشیوں کے ساتھ
اظہار یکجہتی کے لیے اپنی ایک ایسی
تصویر بنائیں جس میں آپ نے ایک
کارڈ اٹھایا ہو جس پر لکھا ہو کہ 'میں
واٹر فرنٹس کی حمایت کرتا ہوں' اپنی
تصویر پھر اس پتہ پر اپلوڈ کر دیں:

<http://www.people-live-here.org/solidarity>

ان تصاویر کی واٹر فرنٹس کے رہائشیوں
کے لیے سال دو ہزار بارہ میں ایک نمائش
منعقد کی جائے گی۔

www.amnesty.org/individuals-at-risk

Amnesty International
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
United Kingdom

AMNESTY
INTERNATIONAL



دسمبر دو ہزار گیارہ
انٹیکس نمبر: AFR 44/017/2011
Urdu



پورٹ ہارکورٹ رہائشی کے لیے فورا قدم اٹھائیں

بغیر مرحلہ وار منصوبے پر کام جاری رکھتے ہیں تو تمام واٹرفرنٹ آبادیوں کو گرا دیں گے۔

ریور ریاستی حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان واٹرفرنٹ آبادیوں کو گرانا شہروں کی ازسرے نو تجدید کے پروگرام کے لیے ضروری ہے۔ البتہ دوبارہ آبادکاری کے منصوبے متاثرہ برداریوں سے مشاورت کے بغیر تیار کیے گئے ہیں۔

بین القوامی قانون کے تحت نائجیریا پر لازم ہے کہ وہ مناسب رہائش فراہم کرنے کے حق کو عملی جامعہ پہنائیں اور حکومت جبری بیدخلی سے قاصر رہے اور اسے روکے۔ واٹرفرنٹ کے رہائشیوں سے مشاورت اور انہیں نئے ہاوسنگ پروگرام اور پالیسی کی تیاری میں حصہ لینے کا حق ہے۔

نائجیریا میں بیس لاکھ افراد کو سال دو ہزار سے جیڑا ان کے مکانات سے بے دخل کیا گیا ہے۔ مزید سینکڑوں ہزاروں کے بے گھر ہونے کا خطرہ موجود ہے۔

بے دخلیوں میں پہلے سے متاثرہ لوگوں اور کچی آبادیوں میں رہنے والوں کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ ان میں سے کئی کو سالوں سے صاف پانی، صفائی اور مناسب طبی و تعلیمی سہولتوں تک رسائی حاصل نہیں ہوتی ہے۔

بعض مواقعوں پر سکیورٹی فورسز منصوبے کے تحت عمارتیں گرانے پر احتجاج کرنے والوں کے خلاف طاقت کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ ریور سٹیٹ، پورٹ ہارکورٹ میں بندو واٹرفرنٹ کے مقام پر سکیورٹی فورسز نے ایک درجن مظاہرین کو گولی مار دی۔ یہ افراد اپنے مکانات کو گرائے جانے کے خلاف پرامن احتجاج کر رہے تھے۔

اٹھائیس اگست سال دو ہزار نو کو پورٹ ہارکورٹ میں نیمانزی واٹرفرنٹ کی آبادی مسمار کیے جانے سے ہزاروں مرد، عورتیں اور بچے بے گھر ہو گئے۔ اس سے قبل نا تو رہائشیوں سے حقیقی مشاورت کی گئی اور نہ ہی انہیں پیشگی نوٹس، معاوضہ، متبادل رہائش یا قانونی حل مہیا کیا گیا۔ یہ راستہ اپنانا بین القوامی قوانین کے تحت لازمی تھا۔

نیمانزی پورٹ ہارکورٹ میں چالیس پانی کے کنارے موجود آبادیوں میں سے ایک ہے۔ پورٹ ہارکورٹ میں دو لاکھ سے زائد افراد جبری طور پر بے گھر کیے جانے کے خطرے سے دوچار ہیں اگر حکام حقوق انسانی کے تحفظ کو یقینی بنائے

3-17 دسمبر 2011

حقوق کے لیے قلم اٹھائیں
تبدیلی کا سبب بنیں